

بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے پہر الیکشن کے اپنے محرکات اور سیاسی فضا ہوتی ہے۔ یہ □ اسمبلیاں پہلے بھی قائم ہوتی تھیں اور کام بھی کرتی تھیں قطع نظر اس کے □ □ □ و □ کیسی ہی عوامی حمایت کے نتیجے میں قائم ہوئیں یا حکمران جماعت کے پاس حکومت کرنے کا کوئی بھی اخلاقی یا قانونی جو از ہو۔ نومبر دسمبر 2008 ء میں ہونے والے گیارہویں ریاستی انتخابات نے مسئلہ □ کشمیر کے مستقبل اور ریاست کی سیاست سے متعلق بہت سارے اہم موضوعات کو جنم دیا ہے۔ انتخابا □ میں رائے دہی کی زیاد □ شرح کے مضمرات بڑے پیمانے پر زیر بحث ہیں بلکہ □ بعض حلقوں کی جانب سے کشمیریوں کی طرف سے انتخابات میں اتنے بڑے پیمانے پر شرکت کو وادی کی موجود ہ آزادی پسند تحریکوں کی عوامی حمایت میں کمی اور کشمیریوں کی طرف سے جوں کی توں صورتحال کو برقرار رکھنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے تاہم الیکشن کے موقع پر ہزاروں لوگوں کا 2008 ء کے امر ناتہ شرانن اور 2009 ء میں سانحہ □ □ شوپیاں کے حوالے سے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں مظاہرے اس بات کا اظہار ہیں کہ □ وادی میں آزادی کی □ واز اور جذب □ □ صرف زند □ ہے بلکہ □ بھارتی قبضے کے بعد سے اب تک کشمیریوں □ کی چوتھی نسل میں بھی منتقل ہو چکا ہے۔ جموں و کشمیر میں انتخابات کی تاریخ سے یہ □ بات واضح ہے کہ □ اس طر □ کے انتخابا □ کشمیری عوام کے لئے حق خودارادی اور رائے شماری کا □ تو نعم البدل ہیں اور □ ہی وادی میں □ زادی کے جذبا □ کو سرد کر سکتے ہیں۔

Elections in Indian Held Kashmir and the Kashmir Dispute